

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وَيَقِنَّا بِهِ مُؤْمِنٌ
وَلَكُمْ حِلَالٌ
وَمَا تُنْهِيَنَّ

190/VTR/2012

دِرْسَةٌ مُرْتَبَةٌ

دَوْلَةُ الْمُتَّقِينَ

፩፻፲፭/፳፪፱
(C-0418/2010)

دَوْلَةُ عَرَبِيَّةٍ قَرْبَة





፳፻፲፭ ዘመን መመሪያ ተስተካክል

وَيَوْمَ يُحْكَمُ مَثَلُهُمْ
وَيَوْمَ يُنَزَّلُ مَثَلُهُمْ

دِرْهَمَةٌ مُّكَبَّلَةٌ

وَمِنْهُ مَنْ يَقُولُ (عَزَّوَجَلَّ) إِنَّمَا مَنْ يَرَى فَالْمُؤْمِنُونَ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (A133525)

دِینِ اسلام

اے جو خدا نے میرے ساتھی کیا تھا اسے میرے ساتھی کیا دے دیں۔ (جس کو میرے ساتھی کیا تھا) (A066373)

حَدَّثَنَا عَوْنَانُ بْنُ قَهْرَمَانٍ

تَعْلِمُونَ وَيَسِّرْ لَهُمْ (جَنُوبَيْرَ مَدِينَةِ مَوْلَى الْأَئِمَّةِ) تَعْلِمُونَ
مَدِينَةِ مَوْلَى الْأَئِمَّةِ (A075903)، سَمَّاً مَهْرَجَوْهُ، دَرْجَهُوْهُ

١٤٣٣ هـ ٢٠١٢ م ١٨٥٧

جَنْدُونَ

1435 ١٤٣٥ 24
2013 ٢٠١٣ 28

دِرْهَمٌ مُّسْكُنٌ

(ج) 07

፳፻፲፭

بسم الله الرحمن الرحيم 14
عمر 17

دَوْلَةُ الْمُسْلِمِينَ

مکتبہ میرزا

(۱۰۲) ۱۰۲

جَرْجَرٌ سَرْجَرٌ دَجَرٌ دَجَرٌ سَرْجَرٌ دَجَرٌ



دَرْجَاتٍ نُزُلَّ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

କାନ୍ତିର ପାଦର ପାଦର ପାଦର ପାଦର



የኢትዮጵያ የወጪ ተስፋ አንቀጽ 19 ዓ.ም. የሚከተሉት ትርጓሜዎች በመሆኑ በግዢርዳውን ተስፋ የሚከተሉት ትርጓሜዎች በመሆኑ በግዢርዳውን



1.5 دَرْجَاتُهُ وَتَرْكِيزُهُ وَمَنْعِمَةُ عَيْنِهِ وَلَدُونُهُ كُلُّهُ سَرِيرَةٌ 42/2012 (c) "عَيْنُ وَرَسْتُ وَلَدُونُهُ كُلُّهُ" 17

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُخْلَدَ فِي الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُخْلَدَ فِي السَّمَاوَاتِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ ذِيْلَهُ عَلَىٰ مُّؤْمِنِيهِ

جَرْجَرٌ وَجَرْجَرٌ وَجَرْجَرٌ وَجَرْجَرٌ وَجَرْجَرٌ وَجَرْجَرٌ

وَمِنْ أَعْلَمِ الْأَعْلَمَةِ وَمِنْ أَعْلَمِ الْأَعْلَمَةِ وَمِنْ أَعْلَمِ الْأَعْلَمَةِ (۱) وَمِنْ أَعْلَمِ الْأَعْلَمَةِ

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ٢٠١٠ "الطبعة الأولى" © ٢٠٠٣

٢٣٩ ٥٧ ٦٠٠ ٦٣٣ ٦٣٣ ٦٣٣ ٦٣٣ ٦٣٣ ٦٣٣ ٦٣٣ ٦٣٣ ٦٣٣ ٦٣٣

۱۰۷

17 "وَمَنْ يُؤْمِنْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" (سورة الرعد، آية ٢٣)

o c - - c - - - - - o c - c ox o // o - - o c / = - - ox o - - . = - - o / c o - / c - - - o /

۱۸

Ref no: ME-KEM513-001-3146





مکتبہ علامہ فضل

1.15 ቤትታውን ማስተካከል የዚህ ዓይነት ቤትታውን አገልግሎት የሚያሳይ ይችላል፡፡



1.16. **أَمْرٌ عَلِيٌّ قَرِيبٌ** 23 **عَلِيٌّ قَرِيبٌ** 2 **عَلِيٌّ قَرِيبٌ** 2 (قَرِيبٌ) **رَوْحَةُ الْجَنَاحِ**
أَمْرٌ عَلِيٌّ قَرِيبٌ، **أَمْرٌ** (1) **عَلِيٌّ قَرِيبٌ** **دِرْبِيَّةِ** **عَلِيٌّ قَرِيبٌ** **عَلِيٌّ قَرِيبٌ** **عَلِيٌّ قَرِيبٌ** **عَلِيٌّ قَرِيبٌ**
عَلِيٌّ قَرِيبٌ، **(2)** **رَجَبٌ** **عَلِيٌّ قَرِيبٌ** **رَجَبٌ** **عَلِيٌّ قَرِيبٌ**

1.17 23 گونه تجسسی گیگاپیکسلی (R) کی حسینیت سرچینی خود را دوچی قویتر خود نمایند، علی گویند
و بدانند که نسبت علی گویند و بدانند که نسبت علی گویند و بدانند که نسبت علی گویند و بدانند که نسبت علی گویند
همه چیزی را که اینها می‌دانند را در خود دارند و بدانند که نسبت علی گویند و بدانند که نسبت علی گویند و بدانند که نسبت علی گویند
باید پیش از شروع همه چیزی که اینها می‌دانند را در خود دارند و بدانند که نسبت علی گویند و بدانند که نسبت علی گویند
210/HC-A/24 گذشتگی و نیز نسبت علی گویند و بدانند که نسبت علی گویند و بدانند که نسبت علی گویند
علی گویند و بدانند که نسبت علی گویند و بدانند که نسبت علی گویند و بدانند که نسبت علی گویند
برای گذشتگی و نیز نسبت علی گویند و بدانند که نسبت علی گویند و بدانند که نسبت علی گویند
در نسبت علی گویند و بدانند که نسبت علی گویند و بدانند که نسبت علی گویند و بدانند که نسبت علی گویند
در نسبت علی گویند و بدانند که نسبت علی گویند و بدانند که نسبت علی گویند و بدانند که نسبت علی گویند.

1.19 حِمَقَيْرَةٌ تَكْتُلُهُنَّ مُهْرَجَيْرَةٌ وَرَقَيْرَةٌ سَبَرَهُنَّ دَوْهَرَهُنَّ، حِمَقَيْرَةٌ
رَسَرَهُنَّ دَرَرَهُنَّ حَدَّهُنَّ حَفَرَهُنَّ حَفَرَهُنَّ حِمَقَيْرَةٌ وَرَقَيْرَةٌ سَبَرَهُنَّ،
حِمَقَيْرَةٌ سَرَهُنَّ دَرَرَهُنَّ سَبَرَهُنَّ حِمَقَيْرَةٌ وَرَقَيْرَةٌ سَبَرَهُنَّ





ወጪ የሚሸጥ ዘመን በዚህ ዓይነት የሚያስፈልግ ይችላል፡፡ እና የሚያስፈልግ ይችላል፡፡



گردو دم سه قریب و میر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جَنَاحُ الْمُؤْمِنِينَ

دَلْكَوْ دَلْكَوْ دَلْكَوْ

دَوْلَةُ الْمُتَّحِدَّهُ وَالْإِمَارَاتُ الْمُتَّحِدهُ



فَلَمَّا سَمِعَ الْمُؤْمِنُونَ قَوْمًا
جَاءُوكُم مُّهَاجِرِينَ لِيُبَرِّئُوكُمْ

لـ سـ عـ دـ

1435 9-9-3 24

2013 سُرْجَه 28